



## سوال

(22) افادیت ختم ہونے کی صورت میں وارثوں کا دادا کے وقف کو تقسیم کر لینا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سعید نامی شخص نے ایک چھوٹا سا قطعہ اراضی زمین وقف کیا تھا اور وہ اس قطعہ زمین کی آمدنی کو 27 رمضان کی رات صدقہ کر دیا کرتا تھا، سعید کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سالم سعید بھی اس کے نقش قدم پر چلتا رہا، سالم سعید کے بعد محمد سالم سعید وارث بنا اور محمد سالم سعید بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتا رہا، محمد سالم سعید کے دو بچے ہیں ایک علی محمد سالم سعید اور دوسرا حیدر محمد سالم سعید، علی محمد سالم سعید بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ علی اور حیدر بھی تین تین بیٹے چھوڑ کر فوت ہوئے تو کیا ان بیٹوں کے لئے اپنے آباؤ اجداد کی جائیداد آپس میں تقسیم کرنا جائز ہے یا یہ جائیداد نسل در نسل وقف ہی رہے گی؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر امر واقع اسی طرح ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے تو ورثاء کے لئے وقف کی یہ زمین آپس میں تقسیم کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس کی افادیت ختم ہو گئی ہو تو بھی یہ زمین وقف ہی میں رہے گی اور اس کی آمدنی نیکی کے ان کاموں میں خرچ کی جائے گی جہاں اس کی ضرورت ہو جبکہ ان کاموں میں خرچ کرنے والا کوئی اور نہ ہو مثلاً مسجدوں کی اصلاح، ترمیم اور تعمیر کے لئے یا پانی کے نظام کے لئے یا چٹانیاں اور دریاں خریدنے یا دیگر ایسے لوازم منفعیت کے لئے جن کی اس شہر کے لوگوں کو ضرورت ہو جس میں وہ وقف موجود ہو یا پھر اسے وقف کرنے والے کے رشتہ دار اور غیر رشتہ دار فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 36

محدث فتویٰ